



# SECURITIES & EXCHANGE COMMISSION OF PAKISTAN

**Press Release**  
**June 2, 2017**  
***For Immediate Release***

## **SECP sets new record by registering 926 companies in a month**

### **Corporate portfolio rises to 80,000 companies**

ISLAMABAD, June 2: The Securities and Exchange Commission of Pakistan (SECP) in May registered the highest number of 926 new companies so far, witnessing an increase of 44 percent as compared to same month of preceding year.

During the first eleven months of current fiscal year (2016-17) registered 7,688 new companies. As compared to the corresponding period last year, it represents a growth of 35 percent. The massive increase in number of new companies is the direct result of various reforms measures introduced by the SECP, i.e. reduction of fee, introduction of swift incorporation process, assistance of incorporation by facilitation wings of CROs, elimination of purchase of third-party digital signatures and introduction of simple and hassle-free CNIC-based user ID and PIN system for incorporation and post incorporation activities.

Around 86 percent companies were registered as private limited companies, while around 11 percent companies were registered as single-member companies. Three percent of the companies were registered as public unlisted, association's not-for-profit, trade organizations and foreign companies.

The service sector took the lead with the incorporation of 136 companies, trading with 129, construction with 114, IT with 89, tourism with 57, engineering with 30, food and beverages, health care, and real estate development with 27 each, communication with 24, education and fuel and energy with 20 each, transport with 17, corporate agricultural farming with 16, lodging, pharmaceutical, power generation and textile with 15 each, cable and electric goods with 14, auto allied with 13, and 106 companies were registered in other sectors. Moreover, 13 foreign companies were also registered by the CROs in Islamabad, Karachi and Faisalabad.

Foreign investment has been reported in 75 new companies. These companies have foreign investors from, Australia, Austria, Bangladesh, China, Canada, Cyprus, Denmark, Germany, South Korea, Kuwait, Netherlands, Norway, Oman, Singapore, Turkey, the UAE and the US. During the month, the highest numbers of companies, i.e. 338, were registered at the Islamabad CRO, followed by 268 and 165 companies registered at Lahore and Karachi CROs respectively. The CROs in Peshawar, Multan, Faisalabad, Quetta, Sukkur and Gilgit-Baltistan registered 46, 43, 33, 15, 5 and 13 companies respectively.

کمپنیوں کی رجسٹریشن میں ریکارڈ اضافہ: ایس ای سی پی نے ایک ماہ میں نو سو چھپیس نئی کمپنیاں رجسٹر کیں

ملک میں رجسٹرڈ کمپنیوں کی تعداد اسی ہزار سے زائد ہو گئی

اسلام آباد (۲ جون) ملک میں کارپورائزیشن کے رجحان میں اضافے کے سبب نئی کمپنیوں کی رجسٹریشن میں ریکارڈ اضافہ ہوا ہے۔ مئی میں سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان میں نو سو چھپیس (926) نئی کمپنیوں نے رجسٹریشن حاصل کی جو کہ گزشتہ برس کے اسی مہینے کے مقابلے میں چوالیس فی صد زیادہ ہے۔ ملک میں کل رجسٹرڈ کمپنیوں کی تعداد اسی ہزار ہو گئی ہے۔

رواں مالی سال کے گیارہ مہینوں میں ایس ای سی پی میں سات ہزار چھ سو اٹھاسی (7,688) کمپنیاں رجسٹر ہوئیں جو کہ گزشتہ مالی سال کی اس مدت کے مقابلے میں پینتیس فی صد اضافہ ہے۔ کمپنیوں کی رجسٹریشن میں نمایاں اضافے کی بڑی وجہ ایس ای سی پی کی جانب سے کمپنی رجسٹریشن کے محکمے میں لائی گئی اصلاحات اور رجسٹریشن کے عمل کی تسہیل ہے۔ ایس ای سی پی نے نہ صرف کمپنی کی رجسٹریشن کی فیسوں میں نمایاں کمی کی بلکہ تھرڈ پارٹی سے ڈیجیٹل دستخطوں کی شرائط کو ختم کرتے ہوئے نیا اور جدید سسٹم اپنایا جس نے رجسٹریشن کے عمل کو بھی تیز کر دیا۔

مئی کے مہینے میں رجسٹریشن حاصل کرنے والی کمپنیوں میں چھپاسی فی صد پرائیویٹ لمیٹڈ، گیارہ فی صد سنگل ممبر اور تین فی صد پبلک ان لسٹڈ کمپنیاں، غیر منافع بخش ایسوسی ایشن، ٹریڈ آرگنائزیشنز اور غیر ملکی کمپنیاں شامل ہیں۔ سب سے زیادہ کمپنیاں خدمات کے شعبے میں رجسٹرڈ ہوئیں جن کی تعداد ایک سو چھتیس (136) ہے جبکہ تجارتی شعبے میں ایک سو انیتس (129)، تعمیرات میں ایک سو چودہ (114)، انفارمیشن ٹیکنالوجی میں نو اسی (89)، سیر و سیاحت میں ستاون (57)، انجنیئرنگ کے شعبے میں تیس (30)، خوراک و مشروبات، صحت، ریل اسٹیٹ کے شعبوں میں ستائیس (27)، مواصلات میں چوبیس (24)، تعلیم اور ایندھن و توانائی میں بالترتیب سترہ، سترہ کارپوریٹ ایگریکلچرل فارمنگ میں سولہ، دو سازی، پاور جنریشن، اور ٹیکسٹائل میں سے ہر ایک شعبے میں پندرہ، کیبل اور برقی اشیاء میں چودہ، آٹو لائیڈ میں تیرہ اور اس کے علاوہ ایک سو چھ کمپنیاں دوسرے مختلف شعبوں میں رجسٹر ہوئیں۔ اس ماہ تیرہ بین الاقوامی کمپنیوں نے اسلام آباد، کراچی اور فیصل آباد میں رجسٹریشن حاصل کی۔

اس ماہ یکم (75) نئی کمپنیوں میں غیر ملکی سرمایہ کاری ہوئی۔ ان سرمایہ کاروں کا تعلق آسٹریلیا، آسٹریا، بنگلہ دیش، چین، کینیڈا، سائپرس، ڈنمارک، جرمنی، جنوبی کوریا، کویت، نیدرلینڈ، ناروے، اومان، سنگاپور، ترکی، متحدہ عرب امارات، اور امریکہ سے ہے۔ سب سے زیادہ رجسٹریشن اسلام آباد کے کمپنی رجسٹریشن آفس میں ہوئی جہاں تین سو اٹھائیس (328) کمپنیاں رجسٹر ہوئیں جبکہ لاہور میں دو سو اڑسٹھ (268) کراچی میں ایک سو پینسٹھ (165)، پشاور میں چھیالیس، ملتان میں تریالیس، فیصل آباد میں تینتیس، کوئٹہ میں پندرہ، سکھر میں پانچ اور گلگت بلتستان میں تیرہ کمپنیاں رجسٹر کی گئیں۔